



Medicaid ایک نظر میں


کیا چیز محیط ہے؟

- ہسپتال کی ان پیشینہ اور آؤٹ پیشینہ خدمات
- کلینک کی خدمات
- Child/Teen Health Program کے تحت 21 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ابتدائی اسکریننگ، تشخیص اور علاج
- دوائیں، رسد، طبی آلات اور ساز و سامان جیسے وہیل چیئرز، وغیرہ
- لیبارٹری اور ایکسرے خدمات
- ڈاکٹروں اور معالجین نندان کے ذریعے تدارکی صحت اور دانت کی نگہداشت اور علاج
- نرسنگ ہوم میں نگہداشت
- گھریلو صحت ایجنسیوں کے ذریعہ نگہداشت اور ذاتی نگہداشت
- نفسیاتی ہسپتالوں میں علاج (21 سال سے کم عمر اور 65 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے)، ذہنی صحت کی سہولیات اور ذہنی لحاظ سے ماؤف اور نشوونما کے لحاظ سے معذور افراد کے لیے سہولیات
- خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات
- طبی اپائنٹمنٹس کے لیے نقل و حمل، بشمول عوامی نقل و حمل اور کار مانیج
- ہسپتال میں ہنگامی ایمبولنس کے ذریعہ نقل و حمل
- سگریٹ نوشی ترک کرنے والے پروڈکٹس جیسے چیونگ گم اور پوتلیاں

بعض خدمات عمر، مالی حالات، کنبہ جاتی صورتحال، یا رہائشی انتظامات کی وجہ سے محیط نہیں ہو سکتی ہیں۔ بعض خدمات کے لیے معمولی ضمنی ادائیگیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ منضبط نگہداشت کے منصوبے میں ہیں تو فارمیسی کی خدمات کے لیے معمولی ضمنی ادائیگی کو چھوڑ کر، آپ کو ضمنی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی۔

ہم سے رابطہ کریں:

TTY 1-800-662-1220 یا 1-855-355-5777 | nystateofhealth.ny.gov



اہل کون ہے؟

کم آمدنی والے باشندگان جو ہیں:

- حاملہ خواتین اور شیر خوار بچے؛
- 1-18 سال کی عمر کے بچے
- زیر کفالت بچوں کے والدین اور نگران رشتے دار؛ یا
- 19-64 سال کی عمر کے بالغ افراد، جو حاملہ نہ ہوں اور Medicare کے لیے اہل نہ ہوں۔

NY State of Health قابل اطلاق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور اپنے صحت پروگراموں اور سرگرمیوں میں نسل، رنگ، قومی بنیاد، جنس، عمر یا معذوری کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا ہے۔

مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری آمدنی اور وسائل مجھے Medicaid کے لیے اہل قرار دیتے ہیں؟

ذیل کا چارٹ دکھاتا ہے کہ آپ کو ہر سال کتنی رقم موصول ہو سکتی ہے اور پھر بھی آپ Medicaid کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں۔*
آمدنی کی سطحیں اس بنیاد پر ہیں کہ آپ کے ساتھ خاندان کے کتنے افراد رہتے ہیں؟

2017 کی سالانہ آمدنی کی سطحیں

| گھرانے کا سائز | والدین/نگران یا بغیر بچے والے تنہا جوڑے یا 19 اور 20 سال کی عمر کے وہ بالغان جو والدین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ | بچے 1 - 18 | 19 اور 20 سال کی عمر کے وہ بالغان جو والدین کے ساتھ رہتے ہیں | حاملہ خواتین، 1 سال سے کم عمر کے شیر خوار بچے، یا خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد کے لیے اہل افراد |
|----------------|--|---------------|--|--|
| | 138% کا FPL | 154% کا FPL | 155% کا FPL | 223% کا FPL |
| 1 | \$16,643 | \$18,573 | \$18,693 | \$26,894 |
| 2 | \$22,412 | \$25,010 | \$25,172 | \$36,216 |
| 3 | \$28,180 | \$31,447 | \$31,651 | \$45,537 |
| 4 | \$33,948 | \$37,884 | \$38,130 | \$54,858 |
| 5 | \$39,717 | \$44,322 | \$44,609 | \$64,180 |
| 6 | \$45,485 | \$50,759 | \$51,088 | \$73,501 |
| 7 | \$51,254 | \$57,196 | \$57,567 | \$82,823 |
| 8 | \$57,022 | \$63,633 | \$64,046 | \$92,144 |
| 9 | \$62,790 | \$70,070 | \$70,525 | \$101,465 |
| 10 | \$68,559 | \$76,508 | \$77,004 | \$110,787 |
| اضافی فرد | \$5,769 | \$6,438 | \$6,479 | \$9,322 |

*1 جنوری، 2017 کے مطابق۔ آمدنی کی سطحوں کو وفاقی غربت کی سطحوں (Federal Poverty Levels, FPL) کی بنیاد پر ہر سال ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

Medicaid پر کتنی لاگت آتی ہے؟

ماہانہ پریمیمز: Medicaid کے لیے کوئی ماہانہ پریمیم نہیں ہے۔
لاگت میں حصہ داری: Medicaid کے تحت بعض خدمات کے لیے ایک معمولی ضمنی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جب کوئی ضمنی ادائیگی درکار نہیں ہوتی ہے۔
Medicaid کے تحت ضمنی ادائیگیوں میں کبھی جو زیادہ سے زیادہ ادائیگی آپ کریں گے وہ \$200 ہوگی۔

Medicaid کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سوالات اور جوابات کی فہرست کے لیے اس پتے پر جائیں: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/